

71297 - زندگی میں ہی وراثت کے مابین مال تقسیم کرنا

سوال

کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنے وراثت کے مابین اپنا مال تقسیم کر سکتا ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جی ہاں اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ: اس سے کسی ایک وراثت کو بھی نقصان دینا مقصود نہ ہو، کہ کسی کو دے اور کسی کو نہ دے، یا پھر انہیں نقصان اور ضرر پہنچاتے ہوئے ان کے حق سے بھی کم دے۔

اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم خود فرمائی ہے، اور وراثت کے حصے خود مقرر کیے ہیں، اور جو شخص بھی اس سے باہر جائیگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریگا وہ ایسی جنتوں اور باغات میں داخل ہو گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیگا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریگا اور اس کی حدود سے تجاوز کریگا، وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے النساء (13 - 14) .

افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ اپنا مال اپنے پاس ہی رہنے دے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی وفات کے وقت موجود وراثت میں اس کا ترکہ شرعی تقسیم کے مطابق تقسیم کر دیا جائیگا، اور پھر انسان کو اس کا کوئی علم نہیں کہ پہلے کسے موت آئی ہے حتیٰ کہ وہ اپنا مال اپنے وراثت میں تقسیم کرتا پھرے، اور ہو سکتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اسے اس مال کی ضرورت ہو۔

الانصاف کے مصنف لکھتے ہیں:

" صحیح مذہب کے مطابق زندہ شخص کے اپنا مال اپنی اولاد کے مابین تقسیم کرنے میں کوئی کراہت نہیں، اور ان (یعنی ایک دوسرے قول میں امام احمد رحمہ اللہ نے کراہت بیان کی ہے) سے کراہت منقول ہے۔

الرعاية الكبرى میں وہ کہتے ہیں: اگر کسی کے لیے ممکن ہو کہ اس کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی میں اپنے ورثاء کے مابین اپنا مال تقسیم کرنا مکروہ ہے " انتہی

دیکھیں: الانصاف (142 / 7).

اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں ہے:

" ہم آپ کے والد کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد اس کا محتاج اور ضرورتمند ہو " انتہی.

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (16 / 463).

والله اعلم .